

# Pro

## Chapter 30

### Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	אָנור	בֶּן־	יָקָה	הַמְּשָׁא	נְאֻם	הַנְּבִיר	לְאִיתִיאֵל	לְאִיתִיאֵל	וְאָכַל:
	آگور-کی	بیٹے	یاقہ-کے	پیغام	فرمان	آدمی-کا	ایتیئیل-کے-لیے	ایتیئیل-کے-لیے	اور-آکال
	<a href="#">H0094</a>		<a href="#">H3348</a>		<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H1397</a>	<a href="#">H0384</a>	<a href="#">H0384</a>	<a href="#">H0401</a>

بات کی بس میرے یہ ہوں، گیا تھک میں اللہ، اے ہوں، گیا تھک میں اللہ، اے فرمایا، نے اُس تھا۔ والا رہنے کا مسّا وہ ہیں۔ کہاوتیں کی یاقہ بن اجور میں ذیل رہی۔ نہیں

2	כִּי	בְּעַר	אֲזַכִּי	מֵאִישׁ	וְלֹא־	בִּינַת	אָדָם	לִי:
	کیونکہ	جاہل	میں	سے-آدمی	اور-نہیں	سمجھ	انسان-کی	بے-میرے-پاس
	<a href="#">H1198</a>	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H0998</a>	<a href="#">H0120</a>	

نہیں۔ حاصل سمجھ کی انسان مجھے ہوں، نادان زیادہ سے سب میں انسانوں میں یقیناً

3	וְלֹא־	לְמִדְתִּי	חֲכֻמָּה	וְדַעַת	קְדוּשִׁים	אֲדַע:
	اور-نہیں	سیکھی-میں-نے	حکمت	اور-علم	پاک-کا	جانتا-ہوں-میں
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3925</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H1847</a>	<a href="#">H6918</a>	<a href="#">H3045</a>

ہوں۔ رکھتا علم میں بارے کے خدا قدوس نہ سیکھی، حکمت نے میں نہ

4	מִי	עָלָה־	אֲשֶׁמִים	וַיֵּלֶךְ	מִי	אֶסְפֶּ־	וְרוּחַ	בְּחַפְזָיו	מִי	צָרַר־	אֲמִים
	کون	چڑھا	آسمان-پر	اور-اُترا	کون	سمیٹی	ہوا-کو	میں-مٹھیوں-اپنی	کون	باندھا	پانی-کو
	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H0622</a>	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H2651</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H4325</a>
	בְּשִׁמְלָה	מִי	הַקִּים	כָּל־	אֶפְסִי־	אֶרֶץ	מָה־	שָׁמוֹ	וּמָה־	שָׁם־	בְּזֹ
	میں-کیڑے	کون	قائم-کیا	تمام	کناروں-کو	زمین-کے	کیا	نام-اُس-کا	اور-کیا	نام	بیٹے-اُس-کے-کا
	<a href="#">H8071</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H8034</a>	

כִּי  
اگر  
جانتا-ہے-ٹو  
[H3045](#)

اپنی کو حدود کی زمین نے کس لیا؟ لپیٹ میں چادر کو پانی گہرے نے کس کیا؟ جمع میں ہاتھوں اپنے کو ہوا نے کس آیا؟ اُتر واپس کر چڑھ پر آسمان کون بتا!مجھے تو ہو معلوم تجھے اگر ہے؟ نام کیا کا بیٹے کے اُس ہے، کیا نام کا اُس ہے؟ کیا قائم پر جگہ اپنی

5	כָּל־	אִמְרַת	אֱלֹהֵי	צְרוּפָה	מִגֹּן	הוּא	לְחֹסִים	בּוֹ:
	ہر	کلام	خدا-کا	پاک-ہے	ڈھال	وہ	کے-لیے-پناہ-لینے-والوں	میں-اُس
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0433</a>	<a href="#">H6884</a>	<a href="#">H4043</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H2620</a>		

بے۔ ڈھال وہ لئے کے اُس لے پناہ میں اُس جو ہے، آزمودہ بات ہر کی اللہ

6	אֵל־	תּוֹסֵף	עַל־	דְּבָרָיו	פֶּן־	יִזְכִּיחַ	בְּךָ:	פ
	نہ	بڑھا	پر	باتوں-اُس-کی	مبادا	ڈانٹے	تجھے	اور-جھوٹا-ٹھہرے
	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H3254</a>		<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H6435</a>	<a href="#">H3198</a>	<a href="#">H3576</a>	

گا۔ ٹھہرے جھوٹا ٹو اور گا ڈانٹے تجھے وہ ورنہ کر، مت اضافہ میں باتوں کی اُس

7	שְׁתִּים	שְׁאֵלָתִי	מֵאֲתָדָ	אֵל־	תִּמְנַע	מִמְּנִי	בְּטָרָם	אֲמֹת:
	دو	مانگیں-میں-نے	سے-تجھ	نہ	روک	سے-مجھ	پہلے-اس-سے-کہ	مروں-میں
	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H7592</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H4513</a>	<a href="#">H2962</a>	<a href="#">H4191</a>	

کر۔ نہ انکار سے ان پہلے سے مرنے میرے ہوں، مانگتا چیزیں دو سے تجھ میں رب، اے

8	אִשׁוּא וְדַבֵּר- باطل اور-بات	כָּזָב جھوٹی	תְּרַחֵק دور-رکھ	מִמֶּנִּי سے-مجھ	רָאשׁ غربت	וְעָשָׂר اور-امارت	אֶל- نہ	תִּתֶּן- دے	לִי مجھے	הִטְרִיפֵנִי کھلا-مجھے	לָחֶם روٹی
	<a href="#">H7723</a>	<a href="#">H3577</a>	<a href="#">H7368</a>		<a href="#">H6239</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H2963</a>	<a href="#">H3899</a>	

חֲקִי:

مقررہ-میری  
[H2706](#)

ہے، حق میرا جتنی روٹی ہی اتنی بلکہ دے مجھے دولت نہ غربت نہ دوسرے، رکھ۔ دُور سے مجھ جھوٹ اور گوٹی دروغ پہلے،

9	פֶּן مبادا	אֲשַׁבַּע سیر-بو-جاؤں-میں	וְכַחֲשִׁיתִי اور-انکار-کروں	וְאֶמְרָתִי اور-کہوں	מִי کون	יִהְיֶה یہوواہ	וּפֶן- اور-مبادا	אֲרִישׁ غریب-بو-جاؤں	וְיִנְבְּרָתִי اور-چوری-کروں
	<a href="#">H6435</a>	<a href="#">H7646</a>	<a href="#">H3584</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6435</a>	<a href="#">H3423</a>	<a href="#">H1589</a>

וְתִפְשִׁיתִי  
اور-لوں

שָׁם  
نام

אֱלֹהֵי:  
خدا-اپنے-کا

פ  
—

[H0430](#) [H8034](#) [H8610](#)

کے خدا اپنے کے کر چوری باعث کے غربت میں کہ ہو نہ بھی ایسا ہے؟ کون رُب کہوں، اور کروں انکار تیرا کر بو سیر باعث کے دولت میں کہ ہو نہ ایسا کروں۔ بے حرمتی کی نام

10	אֶל- نہ	תִּלְשָׁן چغلی-کھا	עֶבֶד غلام-کی	אֶל- پاس	אֲדַנּוּ —	(אֲדַנּוּ) آقا-اُس-کے	פֶּן- مبادا	יִקְלָלָהּ لعنت-کرے-تجھے	וְאֲשַׁמֶּתִי: اور-قصوروار-ٹھہرے-ٹو
	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H3960</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0113</a>	<a href="#">H0113</a>	<a href="#">H6435</a>	<a href="#">H7043</a>	<a href="#">H0816</a>

پڑے۔ بھگتنا نتیجہ بُرا کا اِس تجھے اور بھیجے لعنت پر تجھ وہ کہ ہو نہ ایسا لگا، نہ تہمت پر ملازم سامنے کے مالک

11	דָּוָר نسل	אָבִיו باپ-اپنے-پر	יִקְלָל لعنت-کرتی-ہے	וְאֵת- اور-کو	אִמּוֹ ماں-اپنی	לֹא نہیں	יְבָרֵךְ: برکت-دیتی
	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H7043</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1288</a>

دیتی۔ نہیں برکت کو ماں اپنی اور کرتی لعنت پر باپ اپنے جو ہے بھی نسل ایسی

12	דָּוָר نسل	טָהוֹר پاک	בְּעֵינָיו میں-نظروں-اپنی	וּמַגְדָּלוֹ اور-گندگی-اُس-کی-سے	לֹא نہیں	רָחֵץ: دھلی-گئی
	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H2889</a>	<a href="#">H6675</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7364</a>	

ہوئی۔ نہیں دُور غلاظت کی اُس گو ہے، صاف پاک میں نظر اپنی جو ہے بھی نسل ایسی

13	דָּוָר نسل	מָה- کیسی	רָמּוֹ بلندیوں	עֵינָיו آنکھیں-اُس-کی	וְעַפְעָפִיו اور-پلکیں-اُس-کی	יִנְשָׂאוּ: اُٹھی-ہوئیں-ہیں
	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H4100</a>		<a href="#">H6079</a>	<a href="#">H5375</a>	

ہے۔ مارتی سے گھمنڈ بڑے پلکیں اپنی جو ہیں، دیکھتی سے تکبر بڑے آنکھیں کی جس ہے بھی نسل ایسی

14	דָּוָר نسل	תְּלֹארוֹת- تلواریں-ہیں	שִׁנָּיו دانت-اُس-کے	וּמַאֲכָלוֹת اور-چھریاں-ہیں	מִתְלַעְתֵּיו آڑھ-اُس-کے	לֶאֱכֹל کھانے-کے-لیے	עֲנִיִּים غریبوں-کو	מֵאֲרֶץ سے-زمین
	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H8127</a>	<a href="#">H3979</a>	<a href="#">H4973</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H6041</a>	<a href="#">H0776</a>

וְאֶבְיֹנִים  
اور-محتاجوں-کو

מֵאֲדָם:  
سے-بنی-آدم

פ  
—

[H0120](#) [H0034](#)

لیں۔ کر بڑپ کو مندوں ضرورت کے معاشرے جائیں، کھا کو زدوں مصیبت کے دنیا تاکہ ہیں چھریاں جبڑے اور تلواریں دانت کے جس ہے بھی نسل ایسی

15	אֶמְרוּ	לֹא-	אָרְבַּע	תְּשַׁבְּעֶנָּה	לֹא	הִנֵּה	שְׁלוֹשׁ	הֵב	וְהֵב	בְּדוֹתַי	שְׁתֵּי	אֶלְעֻלֹּקָה	15
	کہتیں	نہیں	چار	ہوتیں-سیر	نہیں	یہ	تین	دے	دے	بیٹیاں-ہیں	دو	جوک-کی	
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H7646</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2007</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H3051</a>	<a href="#">H3051</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H5936</a>	

הוֹן:

کافی

[H1952](#)

کہی جو ہیں چار بلکہ ہوتیں نہیں سیر کہی جو ہیں چیزیں تین دو۔ اور دو، اور ہیں، ربتے چبختے جو اعضا دو کے چوسنے ہیں، بیٹیاں دو کی چونک ہے، کافی اب کرو، بس اب کہتیں، نہیں

16	שְׂאוֹלָי	וְעֶזְרָר	רַחֵם	אֶרֶץ	לֹא-	שְׁבַעַה	מֵיִם	אֵיִשׁ	לֹא-	אֶמְרָה	הוֹן:
	پاتال	اور-بند	رحم-کا	زمین	نہیں	ہوتی-سیر	پانی-سے	اور-آگ	نہیں	کہتی	کافی
	<a href="#">H7585</a>	<a href="#">H6115</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7646</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1952</a>	

ہے۔ کافی اب کرو، بس اب کہتی، نہیں کہی جو آگ اور بجھتی نہیں کہی پیاس کی جس زمین رحم، کا بانجھ پاتال،

17	עֵיִן	תְּלַעַג	לְאִבִּי	וְתַבּוּז	לִיקָהֶת-	אֵם	יְקָרוֹהָ	עֲרִיב-	נִחַל
	آنکھ	ٹھنڈ-کرتی-ہے	باپ-سے	اور-حقیر-جانتی-ہے	فرمانبرداری	ماں-کی	نوجوین-گے-اُسے	کوے	نالے-کے
	<a href="#">H0392</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0936</a>	<a href="#">H3349</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H5365</a>	<a href="#">H6158</a>		

וַיֹּאכְלוּהָ  
اور-کھائیں-گے-اُسے  
בְּנֵי-  
بچے  
נֶשֶׁר:  
عقاب-کے  
פ  
—  
[H5404](#)  
[H0398](#)

گے۔ جائیں کھا بچے کے گدھ اور گے نکالیں سے چونچوں اپنی کوئے کے وادی اُسے جانے حقیر کو ہدایت کی ماں اور اُڑائے مذاق کا باپ آنکھ جو

18	שְׁלֹשָׁה	הַמָּה	נִפְלְאוֹי	מִמֶּנִּי	[וְאַרְבַּעַן]	(וְאַרְבַּעַה)	לֹא	יִדְעָתִים:
	تین	یہ	حیرت-انگیز-ہیں	سے-مجھ	—	اور-چار	نہیں	جاننا-میں
	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H6381</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3045</a>

آئی، نہیں سمجھ مجھے کی جن ہیں چار بلکہ ہیں کرتی زدہ حیرت مجھے باتیں تین

19	דָּרָךְ	וְהַנֶּשֶׁר	בְּשָׁמַיִם	דָּרָךְ	נָחֵשׁ	עֲלֵי	צֹר	דָּרָךְ	אֲנִיָּה	בְּלִבִּי	יָם	וְדָרָךְ
	راستہ	عقاب-کا	میں-آسمان	راستہ	سانپ-کا	پر	چٹان	راستہ	جہاز-کا	میں-دل	سمندر-کے	اور-راستہ
	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H5404</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H5175</a>	<a href="#">H6697</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H0591</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H1870</a>		

דָּבָר  
مرد-کا  
בְּעֻלְמָה:  
میں-کنواری  
[H5959](#)  
[H1397](#)

ہے۔ چلتا ساتھ کے کنواری مرد جو راہ وہ اور راہ کی جہاز میں بیچ کے سمندر راہ، کی سانپ پر چٹان راہ، کی عقاب پر بلندیوں کی آسمان

20	אֶכֶן	דָּרָךְ	אִשָּׁה	מִנְאָפֶת	אֶכְלָה	וּמִחֲתָה	פִּיָּה	אֶמְרָה	לֹא-	פְּעֻלָּתִי
	ایسا	راستہ	عورت-کا	زناکار	کھاتی-ہے	اور-ہونچھتی-ہے	منہ-اپنا	اور-کہتی-ہے	نہیں	کیا-میں-نے
	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H5003</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6466</a>		

אָוֶן:  
بدی  
—  
[H0205](#)

ہوئی۔ نہیں غلطی کوئی سے مجھ ہے، کہتی کر ہونچھ منہ اپنا پھر اور لیتی کھا وہ ہے، راہ یہ کی عورت زناکار

21	תַּחַת	שְׁלֹשׁ	רַגְלָהּ	אֶרֶץ	וְתַחַת	אֶרְבַּע	לֹא-	תִּכְבֵּל	שְׂאֵת:
	نیچے	تین-کے	کانہتی-ہے	زمین	اور-نیچے	چار-کے	نہیں	سکتی	اُٹھا
	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H7264</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H5375</a>

سکتی، کر نہیں برداشت چیزیں چار بلکہ ہے اُٹھتی لرز سے چیزوں تین زمین

22	תַּחַת- نیچے	עֶבֶד غلام-کے	כִּי جب	יִמְלֹךְ بادشاہی-کے	וְנָבֵל اور-یے-وقوف	כִּי جب	יִשָּׁבַע- سیر-ہو	לָחֶם: روٹی-سے
	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H5650</a>		<a href="#">H5036</a>		<a href="#">H7646</a>	<a href="#">H3899</a>	

سکے، کھا کھانا کر بھر جی جو احمق وہ جائے، بن بادشاہ جو غلام وہ

23	תַּחַת نیچے	שְׂנוּאָה نفرت-کی-گئی-کے	כִּי جب	תִּבְעַל بیاہ-ہو	וְשָׂפָחָה اور-لونڈی	כִּי- جب	תִּירַשׁ وارث-ہو	וְגִבְרָתָהּ: مالکن-اپنی-کی
	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H8130</a>		<a href="#">H1166</a>	<a href="#">H8198</a>		<a href="#">H3423</a>	<a href="#">H1404</a>

کرے۔ قبضہ پر ملکیت کی مالکن اپنی جو نوکرانی وہ اور جائے ہو شادی کی جس عورت انگیز نفرت وہ

24	אֲרָבֶעָה چار	הֵם یہ	קָטְנִי- چھوٹے	אֶרֶץ زمین-کے	וְהָמָה اور-یہ	חֲכָמִים دانا	מִחֲכָמִים: ہیں-بہت-دانا
	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H1992</a>		<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H2450</a>	<a href="#">H2449</a>

ہیں۔ چھوٹی حالانکہ ہیں مند دانش ہی نہایت مخلوقات چار کی زمین

25	הַנְּמִלִּים چیونٹیاں	עֹם قوم	לֹא- نہیں	עֵץ طاقتور	וַיִּכְנֶוּ اور-تیار-کرتیں-ہیں	בִּקְיֹץ میں-گرمی	לֶחֶם: خوراک-اپنی
	<a href="#">H5244</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H5794</a>		<a href="#">H7019</a>	<a href="#">H3899</a>

ہیں، کرتی جمع خوراک لئے کے سردیوں میں موسم کے گرمیوں لیکن ہیں نسل کمزور چیونٹیاں

26	שָׂפָנִים بجو	עֹם قوم	לֹא- نہیں	עֲצוֹם طاقتور	וַיִּשְׁמְנוּ اور-بناتے-ہیں	בְּסֵלַע میں-چٹان	בֵּיתָם: گھر-اپنا
			<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6099</a>		<a href="#">H5553</a>	

ہیں، لبتے بنا گھر اپنے ہی میں چٹانوں لیکن ہیں نسل کمزور بچو

27	מֶלֶךְ بادشاہ	אֵין نہیں	לְאֶרְבָּה ٹڈیوں-کا-کوئی	וַיֵּצֵא اور-نکلتے-ہیں	חֲצִיץ قطار-میں	כָּלֹ: سب
	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H0697</a>	<a href="#">H3318</a>		<a href="#">H3605</a>

ہیں، نکلتی کر باندھ پرے سب تاہم ہوتا نہیں بادشاہ کا ٹڈیوں

28	שְׂמֵמִית چھپکلی	בִּידָים ہاتھوں-سے	תִּתְפֹּשׂ پکڑی-جاتی-ہے	וְהָיָא اور-وہ	בְּהִיכָלִי میں-محلوں	מֶלֶךְ: بادشاہ-کے
	<a href="#">H8079</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H8610</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H1964</a>	<a href="#">H4428</a>

ہیں۔ جاتی پائی میں محلوں شاہی تاہم ہیں، جاتی پکڑی سے ہاتھ گو چھپکلیاں

29	שְׁלֹשָׁה تین	הָמָה یہ	מִיִּטְיָבִי خوبصورت-چلنے-والے	צָעֵד قدم	וְאֲרָבֶעָה اور-چار	מִיִּטְיָבִי خوبصورت-چلنے-والے	לְכַת: چال
	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H3190</a>	<a href="#">H6806</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H3190</a>	<a href="#">H3212</a>

ہیں۔ چلتے میں انداز پُروکار جاندار چار بلکہ تین

30	לֵישׁ شیر-بیر	גִּבּוֹר طاقتور	בְּבִהֶמָה میں-جانوروں	וְלֹא- اور-نہیں	יָשׁוּב پلٹتا	מִפְּנֵי- سے-سامنے	כָּל: کسی-کے
	<a href="#">H3918</a>	<a href="#">H1368</a>	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3605</a>

ہٹتا، نہیں پیچھے بھی سے کسی اور بے زور اور میں جانوروں جو شیربیر پہلے،

31	זְרוֹזִיר مرغا	מִתְנַיִם کمر-کسا-ہوا	או- یا	תִּישׁ بکرا	וְנִמְלֹךְ اور-بادشاہ	אֶלְקוֹם جس-کے-خلاف	עֲמוֹ: کوئی-نہیں-ساتھ-اُس-کے
	<a href="#">H2223</a>	<a href="#">H4975</a>		<a href="#">H8495</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0510</a>	

بادشاہ والا چلنے ساتھ کے فوج اپنی چوتھے اور بکرا تیسرے، ہے، چلتا کر اکڑ جو مرغا دوسرے،

32	אם- اگر	נבִלָתָה حماقت-کی-ٹو-نے	בְּהִתְנַשֵּׂא اپنے-آپ-کو-اچا-کرنے-میں	ואם- اور-اگر	זְמוּתָה سوچی-ٹو-نے-بُرائی	יָדָהּ ہاتھ	לִפְנֵיהֶם: پر-منہ
			<a href="#">H5375</a>		<a href="#">H2161</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H6310</a>

جا،بو خاموش کر رکھ ہاتھ پر منہ اپنے تو باندھے منصوبے بُرے یا کی حماقت کر بو مغرور نے ٹو اگر

33	כִּי کیونکہ	מֵימָן متھنا	חֶלְבֵי دودھ-کا	יִזְצִיא نکالتا-ہے	חֲמֻצָה مکھن	וּמִיץ- اور-مٹیلنا	אֶף ناک-کو	יִזְצִיא نکالتا-ہے	דָּם خون	וּמִיץ اور-مٹیلنا	אֲפִים غضب-کو	יִזְצִיא نکالتا-ہے
		<a href="#">H4330</a>	<a href="#">H2461</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H4330</a>	<a href="#">H4330</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H4330</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H3318</a>

פ  
—  
קִיב:  
جھگڑا  
[H7379](#)

ہے-ہوتا پیدا جھگڑا لڑائی سے دلانے غصہ کو کسی اور خون سے مروڑنے کو ناک مکھن، سے بلونے دودھ کیونکہ